



سوال

(333) داڑھی کی شرعی حیثیت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک موبائل sms میں پڑھا تھا کہ سیدنا عمرؓ داڑھی مونڈتے تھے کیا یہ سچ ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، جس میں یہ منقول ہو کہ سیدنا عمرؓ داڑھی مونڈا کرتے تھے، یہ ان پاکیزہ ہستیوں پر سراسر بہتان ہے، اور صحابہ دشمن عناصر کی سازش ہو سکتی ہے۔

جمہور اہل علم کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور فرض ہے اور اسے منڈوانا حرام ہے۔

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«خَالُوا الشَّرِکِیْنَ وَفَرُوا اللّٰہِ، وَخَفُوا الشُّرَکِیْنَ»

”مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔“

(صحیح بخاری ۲: ۸۷۵، ح: ۵۸۹۲، صحیح مسلم ۱: ۱۲۹، ح: ۲۵۹)

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی روایت ان الفاظ میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«خَالُوا الشُّرَکِیْنَ، وَخَفُوا اللّٰہِ»

”مونچھوں کو ختم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔“

(صحیح بخاری ۲: ۸۷۵، ح: ۵۸۹۳)



سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث ان الفاظ سے بھی مروی ہے :

«عَلَيْكُمْ بِمَنْعَةِ الشُّرْبِ، وَأَوْفُوا لِي»

”مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔“

(صحیح مسلم: ۱، ۱۲۹، ج: ۵۴، ۲۵۹)

مذکورہ بالا احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی منڈوانا ایک حرام عمل ہے۔

حداماعندی والشداعلم بالصواب

فتاویٰ ثنائیہ

جلد 2